



HBL PAKISTAN SUPER LEAGUE

ٹاور اسپورٹس اور اسپورٹس ورکزمشترکہ طور پر ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے پروڈکشن پارٹنر مقرر

- پروڈکشن سروس فراہم کرنے کے حوالے سے اہم سوالات پریس ریلیز کے ہمراہ موجود ہیں

لاہور، 30 جنوری 2020:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹاور اسپورٹس اور اسپورٹس ورکزمشترکہ طور پر ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے پروڈکشن پارٹنر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایونٹ 20 فروری سے 22 مارچ تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں جاری رہے گا۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے پروڈکشن پارٹنرز کا انتخاب پاکستان پروکیورمنٹ رولز 2004 کے تحت صاف شفاف طریقے سے کیا گیا۔ دو کمپنیوں کے اتحاد پر مشتمل کمپنی کا انتخاب ٹینڈر کے ذریعے کیا گیا، جنہوں نے سب سے کم مالیت پر ٹینڈر حاصل کیا۔

ٹاور اسپورٹس پاکستان جبکہ اسپورٹس ورکزمسنگاپور کی رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں۔ دونوں کمپنیاں مشترکہ طور پر بہترین ٹیم کے ذریعے شاندار پیشہ وارانہ ذمہ داریاں سرانجام دیں گی۔

دونوں کمپنیاں، ایچ بی ایل پی ایس ایل میں پروڈکشن کے فرائض سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کیمبرہ مینز اور ٹیکنکل عملے کو تربیت بھی دیں گی۔ اس تربیتی پروگرام کا مقصد پاکستان میں موجود براڈ کاسٹنگ نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے۔

پروڈکشن ٹیم کی سربراہی کرس میکڈونلڈ جبکہ معاون کی ذمہ داریاں اسٹیفن نارس کے

سپرد کی گئی ہے۔

میکڈونلڈ اس سے قبل ای ایس پی این اسٹار اسپورٹس میں بطور سینئر نائب صدر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ وہ ٹین اسپورٹس کے بانی اراکین میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ کمپنی کے سی ای او بھی رہ چکے ہیں۔

نارس اپنے 30 سالہ پروڈکشن تجربے میں یو کے میں بی ٹی اسپورٹس اور جنوبی ایشیا میں ٹین اسپورٹس کو کامیابی سے لانچ کرچکے ہیں۔ وہ ٹین اسپورٹس میں ہیڈ آف پروڈکشن بھی رہ چکے ہیں، وہ 2000 سے 2006 تک پاکستان کے میچز کی پراڈکشن کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔

پروڈکشن کریو کے دیگر نمایاں اراکین میں ٹم فیملے، لاورنز رینزبرگ اور گراہم رینڈل شامل ہیں۔

ٹم فیملے 30 سالہ دور ملازمت میں بی پی ایل، ایس ایل پی ایل، آسٹریلین اوپن اور بی سی سی آئی کے ساتھ کام کرچکے ہیں۔ ریگنز برگ سپر اسپورٹس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاچکے ہیں جبکہ رینڈل کے 25 سالہ تجربے میں آئی پی ایل کی پراڈکشن کرنا شامل ہے۔

شعیب نوید، پی ایس ایل پراجیکٹ ایگزیکٹو :

پی ایس ایل پراجیکٹ ایگزیکٹو شعیب نوید کا کہنا ہے کہ ہم ایچ بی ایل پی ایس ایل کی براہ راست پروڈکشن کے لیے ان تجربہ کار اراکین کی شمولیت پر بہت پرجوش ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے ابتداء سے ہی پی سی بی مداحوں تک بہترین نشریات فراہم کر رہا ہے، امید ہے کہ ٹاور اور اسپورٹس ورکز آئندہ ایڈیشن میں بہترین پروڈکشن فراہم کر کے کرکٹ فینز کو متاثر کریں گے۔

کرس میکڈونلڈ، چیئرمین اسپورٹس ورکز:

چیئرمین اسپورٹس ورکز کرس میکڈونلڈ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد پاکستان میں موجود کیمرا مینز اور ٹیکنکل عملے کو اعلیٰ تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے دوران بہترین اور متاثر کن پروڈکشن فراہم کرنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ لیگ کے دوران باقاعدہ کلاس روم بنا کر پاکستانی عملہ کو تربیت

فراہم کریں گے۔ کرس میکڈونلڈ نے کہا کہ ان کا ہدف آئندہ 2 سے 3 سال میں پاکستانی عملے کو بہترین اسپورٹس پرائیکشن سیکھانا ہے۔
- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk
@therealpcb
@PakistanCricketBoard
@PakistanCricketOfficial
@therealpcb

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4